

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مستورات کی مسنون نماز

حسب ایماء

حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر جابر صاحب قاسمی زید مجدد، م  
نظم ادارہ کھف الایمان حیدر آباد

مرتب

محمد عبدالعزیز قاسمی  
خادم کھف الایمان حیدر آباد

# جملہ حقوق محفوظ ہیں

مستورات کی مسنون نماز	نام رسالہ
حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی زید مجدد ہم	حسب ایماء
محمد عبدالعلیم قاسمی خادم کھف الایمان بورا بنڈہ حیدر آباد	نام مرتب
فون نمبر: 9063802770	صفحات

# فہرست مضمایں

۵	تقریظ: حضرت مولانا مفتی ابوکبر جابر صاحب قاسمی زید مجدد
۷	عرض مرتب
۹	مرد و عورت کی نماز کے درمیان فرق
۱۰	فرق کامدار ستر پر ہے
۱۳	عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ اجمائی طور پر
۱۸	عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ تفصیلی طور پر
۱۸	تحریکہ کا مسنون طریقہ
۲۰	ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ
۲۱	قیام کا مسنون طریقہ
۲۲	قراءت کا مسنون طریقہ
۲۳	ركوع کا مسنون طریقہ
۲۶	سجدے کا مسنون طریقہ
۳۰	جلسہ کا مسنون طریقہ
۳۰	سجدہ سے دوسری رکعت میں جانے کا مسنون طریقہ

۳۱	قعدے کا مسنون طریقہ
۳۵	چند شہہات اور ان کا ازالہ
۳۵	کیا مرد و عورت کی نماز کا فرق صرف فقہ حنفی میں؟
۳۵	مسلک مالکی
۳۶	مسلک شافعی
۳۶	مسلک حنبلی
۳۷	ایک حدیث اور اس کا صحیح مجمل
۳۸	سبدے میں ہاتھ پھیلانے کی ممانعت
۴۰	مسجد میں خواتین کی آمد
۴۱	دور بیوی میں عورتوں کی باجماعت نماز میں شرکت
۴۲	مزاج شریعت
۴۳	حاصل کلام
۴۶	باجماعت نماز سے روکنا عورت کے حق میں رحمت
۴۶	چند قابل غور پہلو
۴۹	تمرینی سوالات
۵۱	فہرستِ مراجع و مآخذ

## نَفْرِ ظُلُمٍ

حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی زید مجدد

ناظم ادارہ کھف الایمان حیدر آباد

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلَیْ رَسُولِهِ الْکَرِیمِ، اَمَا بَعْدُ!

اگر موٹا موٹا سرسری جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں میں پانچ دس فیصد بھی پنج وقت نمازی نہیں ہیں، آگے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا ذکر ہی کیا!! پھر عورتوں میں تناسب اور بھی کم ہو جاتا ہے، دوسرا طرف عالمی اور ملکی حقیقی مسائل اور قابل اصلاح افکار کا ایک انبار ہے؛ لیکن امت مسلمہ میں ایک طبقہ قدیم اختلافی غیر اہم مسائل میں الجھاتا رہتا ہے، عورتوں کو بھی مردوں کی طرح نماز پڑھنے کی تلقین پر زور طریقہ پر اول وہله میں کرتا رہتا ہے، دیگر فقہی مذاہب کا انکار اور ان پر سے اعتماد اٹھانا ہی اس کا محجوب مشغله ہے، ادارہ کھف حیدر آباد فیصل انٹرنسیشن دیوبند سے مسنون نماز چھپوا تارہتا ہے، جس میں خفی نماز احادیث و آثار کی روشنی میں جمع کردی گئی، ضمناً عورتوں کی نماز کا بھی تذکرہ ہے، کچھ کتابتی اغلاط بھی ہیں۔

میں نے ضرورت محسوس کی کہ تمرنی انداز میں علاحدہ مستقل کتابچہ ترتیب دیا جائے، یہ کام ہمارے رفیق تدریس مفتی عبدالعزیز قاسمی ابن مفتی جمال الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم (مترجم فقہ البیوع) کے حوالہ کیا، مختصر اور ضروری وضاحتوں کے ساتھ مستورات اور طالبات کی خدمت میں رسالہ پیش کیا جا رہا ہے؛ تاکہ نماز کی عملی شکل

درست ہو جائے، اور قرآن و حدیث اور دلائل کی روشنی میں ہونے کا انتراجم بھی  
ہو جائے، خدا نے تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مزید علمی و عملی مقبول کاموں کے  
لیے قبول فرمائے، آمین۔

ابوکبر جابر ترقی

خادم کھف الایمان حیدر آباد

لمسنفر ۱۴۳۵ھ

ستمبر ۲۰۲۳ء

## عرض مرتب

\* بندے کی ہزار نالائقیاں اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات !! اس کا شکر توادا ہو، ہی نہیں سکتا، پھر بھی قیل ارشاد خداوندی (وَأَشْكُرُوا لِي). (البقرة: ۱۵۲) کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں شکر بجالاتا ہوں اور اس کی رحمتوں کا طالب ہوں۔

\* اظہار کروں یا نہ کروں؛ یہ حقیقت ہے کہ تھوڑی بہت بھی صلاحیت اگر بندے میں موجود ہے تو وہ اسباب کے دائرے میں مشق اساتذہ کرام و برادران کے علاوہ والد ماجد کی توجہات و عنایات کا نتیجہ ہے، اور والدہ ماجدہ تو ہمیشہ دعاؤں سے نوازتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے شایان شان اجر جزیل نصیب فرمائے۔

\* حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی زید مجدد ہم کے حکم پر بندے نے یہ رسالہ ترتیب دیا ہے، آپ ایک وسیع المطالعہ اور گراں قدر علمی شخصیت ہیں، علم سے اسی خصوصی شغف کی بنا پر اصحاب کہف کو متعدد علمی کاموں کی جانب توجہ دلاتے رہتے ہیں؛ بلکہ سپردیجی کرتے ہیں، یہ آپ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے اور صحت و طاعت کے ساتھ آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے۔

\* اس رسالے کی ترتیب میں سب سے زیادہ استفادہ استاذی مفتی مکرم حجی الدین صاحب قاسمی زید مجدد ہم کی کتاب ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز“ سے کیا ہے، جزاہ اللہ احسن الجزاء، دیگر مراجع جو پیش نظر رہے ہیں ان کی فہرست آخر میں ذکر کر دی گئی ہے۔

\* اخیر میں تمرینی سوالات دیے گئے ہیں، ان سے کما حقہ استفادہ تجویزی ہو سکتا ہے

جب کہ کتاب کا اولاً اچھی طرح مطالعہ کیا جائے، مکمل ہونے کے بعد کتاب دیکھے بغیر ان سوالات کو حل کیا جائے۔

\*آخر میں اس رسالہ کا مطالعہ کرنے والے مردوخواتین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ کے ساتھ اس کی مرحومہ بہن۔ جو عالمہ فاضلہ اور اخلاق عالیہ کی حامل تھیں، جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئیں۔ کو خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھیں، نیز انسان ہونے کے ناطے اس رسالے میں کچھ غلطی رہ گئی ہو تو مطلع فرمائیں، یہ آپ کا گراں قدر تعاون ہوگا۔

محمد عبدالعیم

خادم کہف الایمان بورابنڈہ حیدر آباد

صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

۸ ستمبر ۲۰۲۳ء

## مرد و عورت کی نماز کے درمیان فرق

مرد و عورت بحیثیت انسان مساویانہ حقوق رکھتے ہیں؛ لیکن ان کی فطرت، جنس، طبیعت اور مزاج الگ تھلگ ہیں، جس کی وجہ سے شریعت اسلامی میں ان کے احکام کے درمیان نمایاں فرق رکھا گیا ہے؛ تاکہ کوئی حکم کسی کی فطرت و مزاج کے خلاف نہیں؛ بلکہ ہم آہنگ ہو، اور تقریباً یہ احکام کا اختلاف حیات انسانی کے ہر شعبہ میں نظر آئے گا، نمونہ کے طور پر کچھ فروق نقطہ وار انداز میں پیش کیے جاتے ہیں:

\* جہاد مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔

\* کمانے اور اہل و عیال کے نفقة کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہے، جب کہ عورت چہار دیواری میں رہ کر گھر کے اندر ورنی انتظام پر توجہ دے گی۔  
\* سعی بین الصفا والمروة کے وقت میلین اخضرین کے درمیان مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے جب کہ عورتیں آہستہ چلیں گی۔

\* طواف کے دوران مردوں کو مل کا حکم ہے؛ لیکن عورتیں عام حالات پر ہی طواف کریں گی۔

\* مردوں کے لیے بہ حالت احرام سلے ہوئے کپڑے منوع ہیں؛ لیکن عورتوں کو اجازت ہے۔

\* عورت کے بال اگر گند ہے ہوئے ہوں تو غسل کے وقت انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے، جب کہ مرد کے لیے ضروری ہے۔

یہ فروق تو دیگر شعبوں سے متعلق تھے جو نمونہ کے طور پر مختصر اذکر کیے گئے، نماز میں بھی بہت سے مسائل کے اندر مرد و عورت کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے:

\* نماز میں سر کا ڈھانکنا مرد کے لیے ضروری نہیں، جب کہ عورت کے لیے ضروری ہے۔

\* جمعہ، عیدین اور باجماعت نماز عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔  
\* وہ امام اور موذن نہیں بن سکتی، اگر امام بننے توصیف میں ہی کھڑی ہوگی، صف سے آگئے نہیں۔

\* باجماعت نماز کی صورت میں عورت کی صاف سب سے پچھر کی گئی ہے۔  
\* امام کی غلطی یا نماز پڑھتے ہوئے کسی کے سامنے سے گزرنے پر تنبیہ کے لیے تسبیح کے بجائے تصفیت کا حکم ہے۔

### فرق کامدار ستر پر ہے

مندرجہ بالا حکام پر غور کرنے سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ ان سارے فروق کامدار ستر و حجاب پر ہے، شریعت ہر موڑ پر چاہتی ہے کہ عورت مستور رہے اور پرده میں رہے، اور اپنی ساری ذمہ داریاں مستور رہ کر ہی انجام دے، ایک حدیث سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے:

**الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ**

**وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ زَيْنَهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْدَةٍ بَيْنَهَا.**

(صحیح ابن حبان، حدیث نمبر: ۵۵۹۹)

عورت ستر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے، اور عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔

دوسری حدیث میں ہے:

**صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِهَا فِي حُجْرَتِهَا،**

**وَصَلَاةُهَا فِي حَفْنَدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِهَا فِي بَيْتِهَا.**

(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۵۷۰)

عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر بالکل اندر و فی حصے میں نماز ادا کرنا ہے۔

فقہاء کرام نے شریعت کے اس مزاج و منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی صفت و کیفیت میں بھی مردو عورت کے درمیان فرق کیا ہے، جن میں سے بعض فروق کے بارے میں صراحةً احادیث ہیں اور بعض کے متعلق آثار صحابہ و تابعین جو کہ درحقیقت شارحین حدیث ہیں اور جنہوں نے حیاتِ نبوی کا با معان نظر متابہ کیا ہے، ذہن میں یہ بات بھی راستہ رہنی چاہیے کہ صفتِ صلاة میں مقصود و مطلوب عورت کا مستور ہونا ہے؛ لہذا جس کیفیت میں وہ زیادہ مستور ہوگی وہی اس کے لیے شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہوگی، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے:

وَقُدْ أَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ بِالإِسْتِشَارَ وَأَذَّبَهُنَّ بِذَلِكَ  
رَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحِبُّ لِلْمَرْأَةِ فِي  
السُّجُودِ أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتُلْصِقَ بَطْنَهَا  
بِفَخِذَيْهَا وَتَسْجُدَ كَأَسْتِرٍ مَا يَكُونُ لَهَا وَهَكَذَا أَحِبُّ لَهَا  
فِي الرُّكُوعِ وَالْجُلُوِّ وَجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا  
كَأَسْتِرٍ مَا يَكُونُ لَهَا وَأَحِبُّ أَنْ تَكُفِّرَ جَلْبَابَهَا وَتُجَافِيَهُ  
رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً عَلَيْهَا لِئَلَّا تَصِفَّهَا ثِيَابُهَا.

(کتاب الام ۱/۳۸)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے عورتوں کو یہ ادب سکھلایا ہے کہ وہ مستور رہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ عورت سجدہ میں اپنے اعضاء باہم ملائے، اور پیٹ کو رانوں سے ملائے، اور جس

کیفیت میں زیادہ مستور ہوا ہی پر سجدہ کرے، اسی طرح رکوع،  
قعدہ اور ساری نماز اس صفت پر ادا کرے جس میں وہ زیادہ  
مستور ہو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے کپڑے سمیٹ لے اور  
رکوع و سجدہ میں ان کوڈھیلار کھے؛ تاکہ اس کے اعضاء نمایاں نہ  
ہوں۔

اور امام بیہقی فرماتے ہیں:

**وَجْمَعُ مَا يُفَارِقُ الْبَرَّأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ  
رَاجِعٌ إِلَى السِّنِّ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُوذَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ  
لَهَا.** (سنن کبری بیہقی ۳۱۲ / ۲)

نماز کے احکام میں مرد و عورت کے درمیان جو فرق ہے ان سب کا  
مدارستہ پر ہے، اور وہ ہر اس ہیئت (کو اختیار کرنے) کی مامور ہے  
جس میں وہ زیادہ مستور ہو۔

## عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ – اجمائی طور پر

- کامل طہارت (وضو یا غسل) کے بعد جو نماز (فرض یا نفل / ادا یا قضا) پڑھنا چاہ رہی ہے اس نماز کی نیت کرتے ہوئے قبلہ کی جانب رخ کر کے کھڑی ہو جائے:
- سر کو معتدل انداز سے اپنی حالت پر رکھا جائے، نہ جھکا یا جائے اور نہ اٹھا یا جائے۔
  - پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھی جائیں۔
  - دونوں پیروں کو نہ ملا کر رکھا جائے نہ کافی فاصلے پر؛ بلکہ اتنا ہی فاصلہ ہو جو عام حالات میں چلتے چلتے فوراً رک جانے کے وقت ہوتا ہے، متوسط ڈیل ڈول کی عورتوں کے لیے چار انگلی کا فاصلہ۔
  - زگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھی جائے۔
  - \* پھر تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر) کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
  - تحریمہ کے لیے ہاتھ سینہ تک اٹھائے جائیں۔
  - ہاتھ آستین سے نہ کالے۔
  - ہتھیلی کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔
  - انگلیوں کو نہ بالکل ملانا چاہیے نہ باہم فاصلہ رکھنے کا اہتمام اور نہ ان کو موڑ ناچاہیے؛ بلکہ ان کو اپنی طبعی حالت پر رکھ۔
  - ہاتھ سینہ تک اٹھانے کے بعد تکبیر کبھی جائے۔
  - \* پھر چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھے
  - ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ ہو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لی جائے۔

- انگلیوں سے حلقے غیرہ بنائے کر کلائی نہ پکڑی جائے۔

\* پھر شناء پڑھے:

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ،**

**وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.**

\* پھر تعوذ پڑھے:

**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.**

\* اس کے بعد تسمیہ پڑھے:

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.**

\* پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔

\* سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے۔

\* اس کے بعد کوئی اور سورت (مکمل یا کچھ حصہ) پڑھے

- پہلی رکعت کو دوسرا رکعت سے لمبی کرے۔

- جہری نمازوں میں بھی آہستہ سے قراءت کرے

\* پھر رکوع میں چلی جائے:

- رکوع میں جاتے وقت تکسیر کہی جائے۔

- رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔

- گھٹنوں پر ہاتھ یوں ہی رکھے، مضبوطی سے نہ پکڑے۔

- گھٹنوں کو موڑ کر رکھے۔

- بازو کو پہلو سے ملا دے اور انگلیاں ملا کر رکھے۔

- **سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ** تین بار پڑھے۔

\* پھر رکوع سے اٹھ جائے:

- اٹھتے وقت سمع اللہ لِمَنْ حَمَدَ کہے۔

- اس کے بعد رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہے۔

- رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑی ہو جائے۔

#### \* پھر سجدے میں چلی جائے:

- سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہی جائے۔

- سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے پھر ہاتھ پھرناک پھر پیشانی رکھے۔

- چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو۔

- انگوٹھے کان کے پاس ہوں۔

- ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔

- سجدہ میں عورت سمٹی ہوئی رہے۔

- پیٹ ران سے اوکھی بازو سے ملا ہوا ہو۔

- سجدہ میں سرین اونچی نہ کرے۔

- سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْمَالِ تین بار پڑھے۔

#### \* پھر سجدہ سے اٹھ جائے:

- سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہے۔

- جلسہ میں یہ دعا پڑھے:

رَبِّ اغْفِرْ لِي.

\* پھر دوسرا سجدہ کر لے، اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔

\* دوسرے سجدہ کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے:

- سجدہ سے اٹھ کر سیدھے کھڑی ہو جائے، بیٹھنے نہیں۔

- سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھائے۔

- اٹھتے وقت بلا عذر رز میں پر ہاتھ نہ ٹیکے۔

- دوسری رکعت میں شناء اور تعوذ نہ پڑھے۔

\* پھر اپر بیان کیے گئے طریقہ کے مطابق قراءت، رکوع، قومہ و سجده کرے، پھر دوسرے سجده کے بعد بیٹھ جائے:

- قعدہ میں دونوں ہاتھ ران پر رکھے۔

- سرین کے بل بیٹھے۔

- دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لے۔

- تشہد پڑھے (قعدہ اولیٰ میں صرف اسی پر اکتفا کرے)

الْتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالظَّبَابَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ  
أَعُّهُدُ إِلَيْكَ الْمُنْفَعَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى  
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

\* تشہد میں انگلی سے اشارہ کرے:

- اشارہ کے موقع پر خضر و بنصر کو موڑ لیا جائے۔

- سلطی اور ابہام سے حلقہ بنایا جائے

- شہادت کی انگلی سے قبلہ کی جانب اشارہ کیا جائے۔

- نگاہ بھی اس انگلی پر جگی ہوئی ہو۔

- لا الہ پر انگلی اٹھائی جائے اور لا الہ پر رکھ دی جائے۔

- انگلی کو حرکت دیتی نہ رہے۔

- انگلیوں کے موڑے رکھنے اور حلقہ بنانے کی یہ کیفیت نماز کے ختم تک رکھے۔

\* درود براہی پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ

بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،  
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ.

\* دعاے ماورہ پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَيْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  
إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَأَرْجُمُنِي إِنَّكَ أَنْتَ  
الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\* پھر سلام پھیرے۔

- پہلے دائیں طرف پھر باکیں طرف۔

- سلام میں فرشتوں کی نیت کرے۔

- دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے پست رکھے۔

\* نماز کے بعد تین بار استغفار کرے

\* یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذُنُوكَ، وَشُكُرَكَ، وَهُسْنِ عِبَادَتِكَ.

## عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ – تفصیلی طور پر

گزشتہ سطور میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کو جمالاً ذکر کیا گیا تھا؛ تاکہ ایک نظر میں سارے افعال آ جائیں اور اس کو دیکھ کر اپنی نماز درست کرنا آسان ہو جائے، آگے اسی طریقہ کو قرآن و حدیث اور آثار کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے؛ تاکہ بصیرت کے ساتھ خواتین اپنی نماز ادا کر سکیں۔

### تحریمہ کا مسنون طریقہ

تحریمہ نماز کا اہم رکن ہے، جس کے بغیر نماز ہی شروع نہیں ہوتی، سنت کے مطابق تحریمہ میں درج ذیل چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے:

\* تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل نقل کرتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ...

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. (بخاری، حدیث نمبر: ۷۳۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔

\* ہاتھ سینہ تک اٹھائے جائیں، حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدُّيَّهَا.

(مجامع کبیر طبرانی، حدیث نمبر: ۲۸)

اور عورت اپنے ہاتھ اپنے پستانوں (سینہ) تک اٹھائے گی۔

حضرت عبد ربہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ أُمَّرَ الدُّرْدَاءِ تَرْفَعُ كَفَنِيهَا حَلْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ

**تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.** (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۳۷۰)

میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو نماز کے آغاز کے وقت اپنے ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھائے ہوئے دیکھا۔

کندھوں کے مقابل کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے کندھوں کے مقابل تھے۔

اور حضرت عاصم احول رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں:

**رَأَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ... وَأُمَّاَتَ حَذْوَةَ ثَدْيَيْهَا.**

(مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۳۷۵)

میں نے حفصہ بنت سیرین رضی اللہ عنہا کو پستان کے مقابل اشارہ (رفع یہ دین) کرتے ہوئے دیکھا۔

اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی تو آپ نے فرمایا:

**حَذْوَةَ ثَدْيَيْهَا.** (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۳۷۱)

اپنے پستانوں کے مقابل۔

یہی بات حضرت زہری رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی:

**تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَةَ مَثْكِبَيْهَا.**

(مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۳۷۲)

اپنے ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھائے۔

اور حماد رضی اللہ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں:

**تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا.**

(مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۳۷۳)

اپنے پستانوں کے مقابل ہاتھ اٹھائے۔

\* سینہ تک جب ہاتھ اٹھائے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہتھی کارخ قبلہ کی جانب ہو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

**وَلْيَسْتَقِبِلْ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ.** (مجموع اوسط، حدیث نمبر: ۸۰)

اور ہاتھوں کے اندر ورنی حصہ (ہتھی) کارخ قبلہ کی جانب کرے۔

\* انگلیوں کو نہ بالکل ملانا چاہیے نہ باہم فاصلہ رکھنے کا اہتمام اور نہ ان کو موڑنا چاہیے؛ بلکہ ان کو اپنی طبعی حالت پر رکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا یہ عمل نقل کرتے ہیں:

**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدِيهِ مَدَّاً.** (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۳۰)

اللہ کے رسول ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے

دونوں ہاتھ اٹھاتے، حال یہ کہ (انگلیاں) دراز ہوتیں۔

\* ہاتھ سینہ تک اٹھانے کے بعد تکبیر کہی جائے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں:

**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ**

**رَفَعَ يَدِيهِ... ثُمَّ كَبَرَ.** (مسلم، حدیث نمبر: ۳۹۰)

اللہ کے رسول ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں

ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔

### ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ

\* چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ انہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، یعنی اس پر اجماع ہے، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے، ملاعی قاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

**وَالْمِرَاةُ تَضُعُ عَلَى صُدُرِهَا اِتْفَاقًا لَأَنَّ مِبْنَى حَالِهَا عَلَى**

**السُّتُرِ.** (فتح باب العناية / ۲۲۳)

عورت بالاتفاق اپنا ہاتھ سینہ پر باندھے گی؛ کیوں کہ عورت کی

حالاتِ نماز کی بنیاد ستر پر ہے۔ (یعنی جس کیفیت میں وہ زیادہ

مستور ہو، ہی پسندیدہ ہے۔)

علامہ شربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

و "یسن" وضع المرأة یدیها علی صدرها.

(مراقب الفلاح ۱/۶۹، وکافی الدر مع الردا ۱/۳۸۰ و در الحکام ۱/۶۷)

عورت کا سینہ پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔

\* ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ ہو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لی

جائے، انگلیوں سے حلقہ غیرہ نہ بنائے جائیں۔ (مراقب الفلاح ۱/۹۰)

### قیام کا مسنون طریقہ

فرض واجب نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، بلا عذر بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، مسنون طریقہ پر قیام کے لیے درج ذیل چیزیں ملحوظ رکھنی چاہئیں:

\* سر کو معتدل انداز سے اپنی حالت پر رکھا جائے، نہ جھکایا جائے اور نہ اٹھایا جائے، حضور ﷺ کے بارے میں صحابہ نے نقل کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَعْتَدَ قَاعِمًا.

اللہ کے رسول ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوتے۔

اسی حدیث میں آگے اعتدال کی یہ وضاحت کی گئی ہے:

فَلَمْ يُصْوِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْبِنْ. (ترمذی، حدیث نمبر: ۳۰۲)

اپنے سر کو آپ نہ جھکاتے اور نہ اٹھاتے۔

\* پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ کھی جائیں، اور یہ اگرچہ صراحتہ مذکور نہیں ہے؛ لیکن

نماز کے دیگر ارکان جیسے تحریک، رکوع اور سجدے کے بارے میں صحابہ نے صراحتہ نقل کیا

ہے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھو پیر کی انگلیاں قبلہ رخ رہتی تھیں، جیسا کہ آگے یہ حدیثیں آئیں گی؛ لہذا قیام کی حالت میں بھی یہی مسنون ہوگا۔

\* دونوں پیروں کو نہ ملا کر رکھا جائے نہ کافی فاصلے پر؛ بلکہ اتنا ہی فاصلہ ہو جو عام حالات میں چلتے چلتے فوراً رک جانے کے وقت ہوتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قیام میں وہ اپنے پیروں کو ملائے ہوئے ہے تو فرمایا:

**خَالِفُ السُّنَّةَ وَلَوْرَا وَحْبَيْنَهُمَا أَكَانَ أَفْضَلَ.**

(نسائی، حدیث نمبر: ۸۹۲)

اس نے سنت کے خلاف کیا، اگر دونوں پیروں کو جدا رکھتا تو بہتر ہوتا۔

یہی حضرت ابن زیمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۵۳۷) اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے۔ (مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۳۳۰۰)

\* نگاہوں کو سجدہ کی جگہ پر رکھا جائے، حضرت انس بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سجدہ میں نگاہ کہاں رکھوں تو آپ نے فرمایا:

**عِنْدَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ يَا أَنَّسُ.**

(سنن کبریٰ یہقی، حدیث نمبر: ۳۵۲۴)

اے انس! سجدے کی جگہ پر رکھو۔

\* شاء پڑھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز کے بعد یہ پڑھتے تھے:

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ،**

**وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.** (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۶۷)

### قراءت کا مسنون طریقہ

\* اولاً تعود پڑھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

قراءت سے پہلے یہ پڑھتے تھے:

**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.**

(مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۲۵۸۹)

خیال رہے کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، باقی رکعات میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔

\* اس کے بعد تمییہ پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں قراءت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور نماز کے بعد اپنے شاگردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

**إِنِّي لَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاتَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.**

(سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر: ۲۳۹۳)

میری نماز اللہ کے رسول ﷺ کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔

\* سورہ فاتحہ پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

**مَنْ صَلَّى صَلَاتَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا يَاءً مُّدَّوِّنَةً الْقُرْآنَ فَيَهُ خَدَاجٌ.**

(مسلم، حدیث نمبر: ۳۹۵)

جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے۔

\* سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے، حضرت واکل بن ججر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہا:

**قَالَ: أَمِينٌ يَجْفِفُ بِهَا صَوْتَهُ.** (متدرک حاکم، حدیث نمبر:

(۲۹۱۳)

\* اس کے بعد کوئی اور سورت (مکمل یا کچھ حصہ) پڑھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**أُمِرْنَا أَن نَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.**

(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۸۱۸)

ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور (قرآن کا) وہ حصہ جو آسان ہو۔

قراءت کی مقدار بھی فقهاء نے احادیث کی روشنی میں طے کی ہے، چنانچہ انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں:

۱۔ طوال مفصل: سورہ حجرات تا سورہ برونج۔

۲۔ او ساط مفصل: سورہ برونج تا سورہ بینہ۔

۳۔ قصار مفصل: سورہ بینہ تا سورہ ناس۔

فجرو ظہر میں طوال مفصل کی سورتیں، عصر وعشاء میں او ساط مفصل کی سورتیں اور مغرب میں قصار مفصل کی سورتیں مسنون ہیں، یا تو بعضیہ یہی سورتیں پڑھے یا ان کی مقدار کے باہر قرآن میں سے جہاں سے چاہے۔ (الدرمن الردا / ۵۳۰)

\* پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرے، حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الشَّانِيَةِ.** (بخاری، حدیث نمبر:

(۷۵۹)

حضور ﷺ پہلی رکعت لمبی اور دوسری مختصر کرتے تھے۔

\* جھری نمازوں میں بھی آہستہ سے قراءت کرے کہ بازو والے کو آوازنائی نہ

دے۔ (الدرمن الردا / ۵۰۳)

### رکوع کا مسنون طریقہ

\* رکوع میں جاتے وقت تکبیر کی جائے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ حَفْضٍ**

**وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَأَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرَ.**

(ترمذی، حدیث نمبر: ۲۵۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار حکمت اٹھتے، کھڑے ہوتے بیٹھتے تکمیرات کہا

کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر رحمی۔

\* رکوع میں صرف اتنا بھلکے کہ گھننوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، ان پر صرف ہاتھ رکھے، مضبوطی سے نہ کپڑے، گھننوں کو موڑ کر رکھے، بازو کو پہلو سے ملا دے اور انگلیاں ملا کر رکھے۔ (الدر مع المردا / ۵۰۳)

\* سجحان ربی العظیم پڑھے، کم سے کم تین دفعہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

إِذَا رَأَيْتَ أَكْدُلَ كُفَّنَ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُجَّانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ (ترمذی،  
حدیث نمبر: ۲۶۱)

جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور اس میں تسلیج تین بار پڑھے تو  
اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ (تین بار) کم سے کم مقدار ہے۔

اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گیارہ بار پڑھے۔ (مرقاۃ المفاتیح / ۲/۱۶) تین سے زائد جتنی  
چاہے پڑھے صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ طاق عدد ہو۔ (ابحر الرائق / ۳۳۸)

\* رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ بن حمدہ کہے، اس کے بعد ربانا لک الحمد کہے،  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں:

قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ (بخاری،  
حدیث نمبر: ۷۳۵)

(رکوع سے اٹھنے کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمع و تمجید کرتے۔

\* رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِي  
قَاعِدًا۔ (مسلم، حدیث نمبر: ۳۹۸)

حضور ﷺ کو رکوع سے سراٹھا نے کے بعد جب تک سیدھے  
کھڑے نہ ہو جاتے سجدہ نہ کرتے۔

### مسجدہ کا مسنون طریقہ

\* سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہی جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  
 کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ حَفْضٍ  
 وَرَجْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُودٍ، وَأَنْوَبَكُرٍ، وَعُمْرٍ.

(ترمذی، حدیث نمبر: ۲۵۳)

حضور ﷺ ہر بار حکمت اٹھتے، کھڑے ہوتے بیٹھتے تکبیرات کہا  
کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی۔

\* سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے پھر ہاتھ پھرناک پھر پیشانی رکھے، حضرت واہل بن

حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضْعُ  
رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۶۸)

میں اللہ کے رسول ﷺ کو سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے پہلے  
گھٹنوں کو رکھتے ہوئے دیکھا۔

اور حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے:  
 إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ.

(مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۲۹۵۸)

جب آپ سجدہ کرتے تو پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر چہرہ رکھتے۔

\* چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو، حضرت واہل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. (مسلم، حدیث نمبر: ۳۰۱)

حضور ﷺ نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔

\* انگوٹھے کان کے پاس ہوں، حضرت واکل رضی اللہ عنہ اور روایت کرتے ہیں:  
 ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ، فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذْنَيْهِ ... (نسائی، حدیث  
 نمبر: ۱۱۰۲)

حضور ﷺ نے تکبیر کی اور سجدہ کیا، تو آپ کے ہاتھ کانوں کے  
 مقابل تھے۔

\* ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:  
 إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ . (سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر: ۲۶۹۵)  
 حضور ﷺ جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملائیتے۔

\* سجدہ میں عورت سمٹی ہوئی رہے، اپنے اعضاء زمین سے ملانے رکھے اور پیٹ  
 ران سے ملا ہوا ہو، حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور  
 ﷺ کا گزر دو عورتوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا:  
 إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُّلًا بَعْضَ الْحَمْدِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ  
 لَيَسْتَ فِي ذَلِكَ كَالَّكَ جُلُّ . (سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر: ۳۲۰۱)  
 جب تم دونوں سجدہ کرو تو جسم کا بعض حصہ زمین سے ملایا کرو؛  
 کیوں کہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ (یعنی مردوں کی  
 طرح اعضاء کو جدا جانا نہیں رکھے گی۔)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَيَذِهَا عَلَى فَيَذِهَا  
 الْأُخْرَى، وَإِذَا سَجَدَتِ الْأَصْقَاتُ بَطْنَهَا فِي فَيَذِهَا كَأَسْتِرِ  
 مَا يَكُونُ لَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا  
 مَلَائِكَتِي أُشْهِدُ كُمْ أَنِّي قُدْغَفَرْتُ لَهَا.

(سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر: ۳۱۹۹)

جب عورت نماز میں بیٹھے تو ایک ران دوسرا ران پر رکھ لے، اور سجدہ کرے تو پیٹ ران سے اس طرح مالیا کرے کہ زیادہ سے زیادہ مستور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے فرشتو! گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔

اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

**إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِرْ. وَلْتُلْصِقْ فَخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا.**  
(مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۵۰۶۹)

جب عورت سجدہ کرے تو سرین کے مل ہو جائے اور پیٹ کو ران سے ملا لے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے:

**تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِرْ.** (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۷۸۲)  
عورت اعضاء کو ملانے ہوئے اور سمٹ کر رہے ہیں۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

**إِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضِمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا. وَتَضْمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا  
إِلَى فَخْذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ.**  
(مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۵۰۶۹)

جب عورت سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو ملا لے، پیٹ اور سینے کو ران سے ملا لے، اور حتی المقدور سمٹ جائے۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُلْزِمْ بَطْنَهَا بِفَخْذَيْهَا... وَلَا تُجْنِي فِي  
كَمَا يُجْنِي فِي الرَّجُلِ.** (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۲۷۸۲)

جب عورت سجدہ کرے تو پیٹ کو ران سے چپکا لے اور مرد کی طرح

جدانہ رکھے۔

حضرت حسن اور حضرت قادہ رض سے بھی یہی منقول ہے:

**إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُ مَا أَسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَنْتَجَافِ.** (مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۵۰۶۸)

جب عورت سجدہ کرے تو حتی المقدور سمت جائے اور اعضاء کو جданہ رکھے۔

\* سجدہ میں سرین اوپنجی نہ کرے، حضرت ابراہیم رض فرماتے ہیں:  
**إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ... لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا.** (مصنف ابن الہبی، حدیث نمبر: ۲۷۸۲)

جب عورت سجدہ کرے تو اپنی سرین نہ اٹھائے۔

یہی بات حضرت حسن اور حضرت قادہ رض سے منقول ہے:  
**وَلَا تَنْتَجَافِ إِلَيْكَ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا.** (مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۵۰۶۸)

عورت اعضاء کو جدانہ رکھے؛ تاکہ اس کی سرین اٹھنے جائے۔

\* سبحان ربی الاعلی پڑھے، کم سے کم تین دفعہ، حضرت ابن مسعود رض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

**إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَ سُبْحُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَانُهُ.**

(ترمذی، حدیث نمبر: ۲۶۱)

جب سجدہ کرے اور اس میں تسبیح تین بار پڑھے تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ (تین بار) کم سے کم مقدار ہے۔

اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گیارہ بار پڑھے۔ (مرقاۃ المفاتیح ۲/۱۶) تین سے زائد جتنی

چاہے پڑھے صرف یہ خیال رکھنا چاہیے کہ طاقت عدہ ہو۔ (ابحرا راقٰ / ۳۳۲)

\* سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازنقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

**ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.** (بخاری، حدیث نمبر: ۸۹)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم (سجدہ سے) سراٹھاتے تو تکبیر کہتے۔

جلسہ (دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے) کا مسنون طریقہ

\* جلسہ کا مسنون طریقہ وہی ہے جو قعدہ کا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

\* جلسہ میں یہ دعا پڑھیں:

**رَبِّ اغْفِرْ لِي.** (نسائی، حدیث نمبر: ۱۱۲۵)

اے میرے رب! میرے گناہوں کو معاف فرمائیے۔

اور یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے:

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْجُنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.**

(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۸۵۰)

اے اللہ تعالیٰ! میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر حرم کیجیے، مجھے عافیت

دیجیے، سیدھی راہ پر چلا دیجیے، اور رزق عطا کیجیے۔

سجدہ سے دوسری رکعت میں جانے کا مسنون طریقہ

\* سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر گھٹھنے اٹھائے، حضرت واکل بن جبر

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِذَا نَهَضَ رَفَعَ**

**يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوبِهِ.** (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۶۸)

میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو گھٹھنوں

سے پہلے اٹھاتے دیکھا۔

اور حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے:  
 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدِيهِ، ثُمَّ رُكِبَتَيْهِ.  
 (مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر: ۲۹۵۸)

جب آپ کھڑے ہونا چاہتے تو پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھاتے۔

\* سجدہ سے اٹھ کر سیدھے کھڑی ہو جائے، بیٹھنے کے لئے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے اس طرح کیا:

ثُمَّ كَبَرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ. (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۹۶۶)  
 (دوسرے سجدہ سے) تکبیر کہ کھڑے ہو گئے، بیٹھنے کے لئے، بیٹھنے کے لئے۔

\* اٹھتے وقت بلا عذر زمین پر ہاتھ نہ لیکے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:  
 نَهَىٰ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَىٰ يَدِيهِ إِذَا تَهَضَّ فِي الصَّلَاةِ.  
 (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۹۹۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینے سے منع فرمایا ہے۔

\* دوسری رکعت میں شاء اور تعوذ نہ پڑھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَضَّ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُنْ. (مسلم، حدیث نمبر: ۵۹۹)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمد سے قراءت کا آغاز فرماتے، خاموش نہیں رہتے۔ (کہ اس درمیان شاء و تعوذ پڑھ لیں۔)

### قعدہ کا مسنون طریقہ

\* قعدہ میں دونوں ہاتھ ران پر رکھے، حضرت ابن زیمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ... وَضَعَ  
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ  
الْيُسْرَى. (مسلم، حدیث نمبر: ۵۷۹)

اللہ کے رسول ﷺ قعده میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور  
بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے۔

\* سرین کے بل بیٹھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب زمانہ نبوی میں عورتوں کے  
نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:  
كُنَّ يَتَبَعُنَ، ثُمَّ أُمْرَنَ أَنْ يَحْتَفِرُنَ.

(مسند ابی حنیفة، حدیث نمبر: ۳)

عورتیں چہار زانوں بیٹھا کرتی تھیں، پھر انہیں سرین کے بل بیٹھنے کا  
حکم دیا گیا۔

\* دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لے۔ (ہدایت فتح القدر / ۳۱۲)

\* تشهد پڑھے ( Creed اولیٰ میں صرف اسی پر اکتفا کرے) حضرت ابن مسعود  
رضی اللہ عنہ سے اس طرح یہ منقول ہے:

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ  
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى  
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ... أَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (بخاری، حدیث نمبر: ۸۳۱)

\* تشهد میں انگلی سے اشارہ کرے، جس کی کیفیت یہ ہو:  
- اشارہ کے موقع پر خضر و بنصر کو موڑ لیا جائے۔

- وسطیٰ اور ابہام سے حلقة بنایا جائے  
- شہادت کی انگلی سے قبلہ کی جانب اشارہ کیا جائے۔

- نگاہ بھی اس انگلی پر جمی ہوئی ہو۔
- لا الہ پر انگلی اٹھائی جائے اور لا اللہ پر رکھ دی جائے۔
- انگلی کو حرکت دیتی نہ رہے۔
- انگلیوں کے موڑے رکھنے اور حلقہ بنانے کی یہ کیفیت نماز کے ختم تک رکھے۔

(یہ ان احادیث کا خلاصہ ہے جو اس بابت وارد ہوئی ہیں، دیکھیں: ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۹۱۲، سنن کبریٰ یعنی، حدیث نمبر: ۲۷۸۳، ابو داؤد، حدیث نمبر: ۹۸۹ و ۹۹۰ مکمل تفصیل کے لیے مطالعہ کیا جائے: بنی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی نماز، ص: ۱۳۱ تا ۱۳۵)

\* درود ابراہیمی پڑھے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ حَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ حَجِيدٌ۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۷، مسلم، حدیث نمبر: ۲۰۶)

\* دعائے ماٹورہ پڑھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استفسار پر حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نماز میں ان کو یہ دعا کرنے کی تعلیم دی تھی:

اللَّهُمَّ إِنِّی ظَلَمَتُ نَفْسِی ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَأَرْجُمُنِی إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

(بخاری، حدیث نمبر: ۸۳۳، مسلم، حدیث نمبر: ۲۷۰۵)

\* سلام پھیرے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے:

كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ (ترمذی، حدیث  
نمبر: ۲۹۵)

حضرور ﷺ دائیں اور باعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کر سلام  
پھیرتے تھے۔

\* سلام میں فرشتوں کی نیت کرے، اور دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے  
پست رکھے۔ (مراقب الفلاح، ص: ۱۰۲ و ۱۰۳)

\* نماز کے بعد استغفار و دعا کرے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی  
کریم ﷺ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار اللہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے:  
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ (مسلم، حدیث نمبر: ۵۹۱)

اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرور ﷺ نے اس دعا کی تلقین فرمائی تھی:  
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذُنُوكَ، وَشُكُرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔  
(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۵۲۲)

یہ دعا بائیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعا بائیں مانگی  
جا سکتی ہیں؛ بلکہ مانگنی چاہئیں؛ کیوں کہ فرائض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔  
(ترمذی، حدیث نمبر: ۳۸۹۹)

## چند شہمات اور ان کا ازالہ

(۱) کیا مرد عورت کی نماز کا فرق صرف فقہ حنفی میں؟

مرد و عورت کے طریقہ نماز کا فرق گزشته صفات میں فقہ حنفی کے مطابق احادیث و آثار کی روشنی میں ذکر کیا گیا، اور یہ فرق صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے؛ بلکہ دیگر مسلمانوں کے فکر میں بھی اس فرق کو ملاحظہ رکھا گیا ہے، ذیل میں مختصر طور پر اس فرق کو ذکر کیا جا رہا ہے۔

### مسلم مالکی

ركوع، سجده اور قعدہ تمام حالات میں مرد کی طرح عورت اپنے اعضاء کو عملاً حدہ نہیں رکھے گی؛ بلکہ ملا کر رکھے گی، علامہ الدسوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

(قَوْلُهُ: يُنَدِّبُ كَوْمَهَا مُنْضَبَةً) أَيْ بِحَيْثُ تَلْصُقُ بَطْنَهَا  
يُفْخَذِيهَا وَمِرْفَقِيهَا إِبْرُ كُبَّتِيهَا.

(حاشیۃ الدسوی علی الشرح الکبیر للدریدیر / ۲۵۰)

عورت کا سمٹی ہوئی رہنا مستحب ہے، اس طور پر کہ پیٹ کو رکھنے سے اور کہنیوں کو گھٹنے سے چپکائے رکھے۔

اور علامہ قیر وانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَهِيَ فِي هِيَأَةِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ غَيْرُ أَنَّهَا تَنْضَمُ وَلَا تَفْرَجُ  
فَخْدَيْهَا وَلَا عَضْدَيْهَا وَتَكُونُ مِنْ ضَبَّةٍ مِنْزُوْيَةٍ فِي جُلُوسِهَا  
وَسَجْدَهَا وَأَمْرَهَا كَلِهٌ. (الرسالۃ / ۳۵۳۲)

ہیئت نماز میں عورت مرد کی مانند ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ سمش کر رہے گی، اپنی ران اور بازو کو کشادہ نہ کرے گی، بیٹھنے، سجدہ کرنے اور ہر حال میں سمٹی ہوئی اور اعضاء کو ملائے ہوئے رکھے گی۔

### مسک شافعی

\* مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں؛ اس لیے فرق کی ضرورت نہیں رہی، عورت بھی وہیں تک ہاتھ اٹھائے گی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ذَكَرَنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْفَعُ حَذْوَمَنْكِبَيْهِ.

(المجموع شرح المہذب / ۳۰۷)

ہمارا مشہور مذہب کندھوں تک ہاتھ کے اٹھانے کا ہے۔

\* رکوع میں عورت بازو کو پہلو سے ملا کر رکھے، علامہ ابو الحسین عمرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ الْمَصْلُى امْرًا . لَمْ تَجَافِ، بَلْ تَضْمَنَ الْمَرْفَقَيْنِ  
إِلَى الْجَنْبَيْنِ. (البيان فی مذہب الشافعی ۲۰۹)

اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو تو ہاتھوں کو پہلو سے ملا کر رکھے۔

\* سجدہ میں عورت اعضاء کو باہم ملائے رکھے گی، پیٹ کوران سے اور بازو کو پہلو سے، علامہ ابن حجر یعنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

(وَتَضْمَنُ الْبَرَأَةُ) نَدَبًا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا  
بِفَخْذَيْهَا فِي بِجْمِيعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.

(تحفة المحتاج ۲/۲۷)

عورت پوری نماز میں ایک عضو کو دسرے سے ملا کر رکھے گی، اور

(سجدہ میں) پیٹ کوران سے؛ کیوں کہ اس میں زیادہ ستر ہے۔

### مسک حنبی

عورت تحریک میں ہاتھ نہیں اٹھائے گی، اسی طرح رکوع، سجدہ اور قعدہ تمام حالات میں مرد کی طرح عورت اپنے اعضاء کو علاحدہ نہیں رکھے گی؛ بلکہ ملا کر رکھے گی، نیز قعدہ میں دونوں پیر دائیں جانب نکال لے گی، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالثَّانِيَةُ: لَا يُشَرِّعُ: لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّتَعَافِي، وَلَا يُشَرِّعُ

ذَلِكَ لَهَا، بَلْ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ  
صَلَاتِهَا۔ (امعنى ۱/ ۳۲۰)

دوسری روایت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھنا درست نہیں؛ کیوں کہ اس میں  
تجانی (اعضاء کو علیحدہ رکھنا) ہے، اور تجانی عورت کے لیے جائز  
نہیں؛ بلکہ وہ رکوع، سجدہ اور ساری نماز میں سمیٰ رہے گی۔  
اور علامہ شرف الدین صالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالمرأة كأن الرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع  
والسجود وجميع أحوال الصلاة وتحلّس متربعة أو  
تسدل رجلها عن يمينها وهو أفضل۔ (الاقناع ۱/ ۱۲۵)  
نماز میں عورت مرد کی طرح ہے؛ البتہ رکوع، سجدہ اور نماز کی تمام  
حالتوں میں وہ سمت کر رہے گی، چار زانو بیٹھے گی یادوں پر داکیں  
جانب نکال کر، اور یہا فضل ہے۔

## (۲) ایک حدیث اور اس کا صحیح محل

ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے:

صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۶۳)

تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں مرد و عورت دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؛  
بلکہ دونوں کو اسی طریقہ پر نماز ادا کرنی چاہیے جس طریقہ پر حضور ﷺ نے نماز ادا  
فرمائی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا اصل مفہوم ہے: جس طریقہ کی میں نے تعلیم دی  
ہے اسی طریقہ کے مطابق نماز پڑھو، مردوں کے لیے الگ تعلیم ہے اور عورتوں کے لیے  
الگ؛ لہذا ہر ایک اسی تعلیم کے مطابق نماز پڑھے گا جو نبی اکرم ﷺ کی جانب سے

اسے ملی ہے، اور حدیث مذکور کا یہ مصدقہ متعین کرنا ضروری ہے؛ تاکہ ان احادیث کے خلاف نہ ہو جائے جن میں صراحت کے ساتھ دونوں کی نماز میں فرق کا ذکر ہے، حضور ﷺ نے توبالکل واضح فرمادیا ہے:

**فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيُسْتَثْنَى فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.**

(سنی کبریٰ بنیقی، حدیث نمبر: ۳۲۰۱)

عورت اس (نماز) کے سلسلے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

دوسرًا جواب یہ ہے کہ خطاب اگرچہ عام ہے؛ لیکن اس میں عموم ملحوظ نہیں ہے؛ بلکہ مردوں کے ساتھ وہ خاص ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، اس کی نظریح کے مسائل ہیں، جیسے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے اور میلین اخضرین کے درمیان دوڑنے کا عام حکم ہے؛ لیکن عورتیں اس سے مستثنی ہیں، اور اس اختصاص و استثناء کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خطاب عام کے بعد مستثنی کے لیے الگ حکم بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے حضور ﷺ نے حضرت واکل بن حجر رض سے فرمایا:

**إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعُلْ يَدَيْكَ حِذَاءً أَذْنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ**

**يَدَيْهَا حِذَاءً ثَدْبِيْهَا.** (مجموعہ کبیر طبرانی، حدیث نمبر: ۲۸)

جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھ کا ان تک اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ

اپنے پستانوں (سینہ) تک اٹھائے گی۔

یہاں مرد و عورت دونوں کے لیے الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔

یا اصولی طور پر ان کا استثناء ہوتا ہے، جیسے فقہاء نے ایک اصول اخذ کیا کہ عورتوں میں تستر کا لحاظ ہونا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے سجدہ وغیرہ کا طریقہ الگ مقرر کیا۔

**(۳) سجدے میں ہاتھ پھیلانے کی ممانعت**

یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے سجدے کے طریقے میں یہ بات آئی کہ وہ بالکل سمٹ کر اور اعضاء کو باہم ملا کر سجدہ کرے گی، اور اس کے ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے ہوں گے،

جب کہ حدیث میں اس طریقے کی ممانعت آئی ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدٌ كُمْ ذِرَاعَيْهِ  
افْتِرَاشُ الْكَلْبِ۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۸۹)

سبدے میں اعتدال رکھو، اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ کتے کی طرح نہ بچھائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہی روایت آئی ہے، اور اس میں مرد کی صراحت موجود ہے:

يَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشُ السَّبْعِ.  
(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۹۸)

حضور ﷺ مرد کو اپنے ہاتھ درندے کی طرح بچھانے سے منع فرماتے تھے۔

رہی عورت تو وہ ہاتھ بچھائے رکھے گی، جیسا کہ سابق میں اس کے دلائل آچکے ہیں، علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ ممانعت کی حدیث نقل کرنے کے بعد صراحت کی ہے:

وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَفْتَرِشَ  
ذِرَاعَيْهَا... لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرْلَهَا۔ (بدائع الصنائع / ۲۱۰)

یہ مرد کے حق میں ہے، رہی عورت تو اس کے لیے اپنے ہاتھ بچھالینا مناسب ہے؛ کیوں کہ اس میں ستر زیادہ ہے۔

## مسجد میں خواتین کی آمد

نماز میں تین باتیں اہم ہیں: نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور مسجد میں ادا کرنا، ان میں سے پہلے حکم میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، جیسے مردوں پر نماز فرض ہے، اگر عورتیں ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتیں تو ان پر بھی فرض ہے۔ پھر فرض نمازوں میں جماعت کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم فرمایا ہے:

وَإِذْ كُعَوَّا مَعَ الرُّكْعَيْنِ۔ (بقرہ: ۲۳)

رسول اللہ ﷺ نے جماعت کے ساتھ مسجد میں تو نماز پڑھائی ہی ہے؛ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر گھر میں بھی جماعت سے نماز پڑھائی ہے۔ (مسند احمد، حدیث نمبر: ۱۳۰۱۳) البتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں بمقابلہ تہا ادا کرنے کے کسی قدر مشقت ہے؛ اسی لئے مردوں پر تو جماعت واجب قرار دی گئی، عورتوں پر واجب نہیں رکھی گئی (عدمۃ الرایۃ علی شرح الوقایۃ: ۹/۱۱۲) تاہم اگر کوئی عورت جماعت میں شریک ہونا چاہے تو آپ نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا؛ اسی لئے مسجد بنوی میں جماعت ہوتی، اس میں آگے مردوں کی، درمیان میں بچوں کی اور پیچھے خواتین کی صفیں ہوا کرتی تھیں۔ (مسند احمد، حدیث نمبر: ۱۲۸۹۶)

نماز سے متعلق تیسری اہم بات مسجد میں نماز کے ادا کرنے کی ہے، یوں تروئے ارض پر کہیں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے؛ مگر مسجد چوں کہ خاص طور پر نماز ہی کی ادا یا کوئی عذر نہ ہو تو مسجد کی جماعت میں شریک ہوں۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۲۳۸) البتہ واجب کافی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۱/۱۵۵)

## دورنبوی میں عورتوں کی جماعت نماز میں شرکت

اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو مردوں کی طرح معمولاً مسجد میں نماز ادا کرنا چاہئے، اور جماعت میں شریک ہونا چاہئے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے؛ چون کہ عبادت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدایات بھی دی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو؛ لیکن ان کو سیدھے سادھے اور کشش سے خالی لباس کے ساتھ مسجد جانا چاہئے:

**لَيَخْرُجُنَّ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ.** (سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۵۶۵)

حضرت عمر بن الخطاب کی زوجہ محترمہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا جائے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۹۰۰)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواتین مسجد میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، ان کی صفت یہ چہ ہوتی تھی، اور ان کو بدایت تھی کہ وہ سلام کے فوراً بعد مسجد سے نکل جائیں اور مردوں کو بدایت دی گئی تھی کہ وہ سلام کے بعد تھوڑا اٹھہر کر کھڑے ہوں؛ تاکہ عورتیں پہلے نکل جائیں۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۸۷۰-۸۷۶) اسی طرح عورتوں کے عیدگاہ جانے کا بھی ذکر آیا ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عمر کی خواتین کو عیدگاہ جانے کو فرماتے تھے؛ البتہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہوتیں، وہ نماز میں شریک نہیں ہوتی تھیں، نماز گاہ سے الگ رہتیں اور دعاء میں شامل ہو جاتیں؛ البتہ اس بات کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ان کے چہروں پر گونھٹ موجود ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس کوئی کپڑا موجود نہ ہو جو چہرہ وغیرہ

کو چھپا لے تو اسے چاہئے کہ کسی سے عاریت پر حاصل کر لے:

**فَلْتُعِرُّهَا أَخْتُهَا مِنْ جَلَابِيَّهَا.** (ترمذی، حدیث نمبر: ۵۳۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول منقول ہے کہ آپ اپنی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات کو نماز عید کے لئے بھیجا کرتے تھے:

**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ.** (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۵۷۸۲)

### مزاج شریعت

لیکن چوں کہ خواتین کا مسجدوں اور اجتماعی جگہوں پر جانا بعض دفعہ فتنہ کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف افراد بدنام ہوتے ہیں؛ بلکہ مقدس مقامات کی حرمت متاثر ہوتی ہے؛ اس لئے بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر میں ہی نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے، اس سلسلہ میں حضرت ام حمید رضی اللہ عنہما سے کئی روایتیں منقول ہیں، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو؛ لیکن تمہارا اپنے کمرہ میں (بیت) نماز پڑھنا بہتر ہے کمرہ کے باہر نماز پڑھنے سے، اور کمرہ کے برآمدہ (جگہ) میں نماز پڑھنا بہتر ہے کہ گھر کے صحن (دار) میں نماز پڑھنے سے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے قوم کی مسجد ( محلہ کی مسجد میں) نماز پڑھنے سے، اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے، صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا کرتے تھے؛ چنانچہ انہوں نے اپنے کمرہ کے ایک تاریک کونہ میں اپنے لئے نماز کی ایک جگہ مقرر کر لی اور آخر متمک وہیں نماز پڑھتی رہیں۔ (صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر: ۱۶۸۹)

اسی سے اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کہ عورتوں کو

مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا جائے، جواز یا زیادہ سے زیادہ استحباب کے طور پر ہے، ایسا کرنا واجب نہیں ہے:

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ إِلَّا لَا يُمْتَنَعُ أَمْرٌ نَدِيبٌ  
وَاسْتِحْبَابٌ، لَا أَمْرٌ فَرِضٌ وَإِيجَابٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ  
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ (تہذیب، حدیث نمبر: ۵۳)

اسی لئے متعدد صحابہ سے مردی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو یا عمومی طور پر تمام خواتین کو مسجد اور عیدگاہ میں جانے سے منع فرمادیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک خاتون کو جو جمعہ کی نماز کے بارے میں دریافت کر رہی تھیں، فرمایا: تمہارا اپنے گھر کے کونہ میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے برآمدہ میں نماز پڑھنے سے:

صَلَاتُكِ فِي هَذَدِ عَلِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي بَيْتِكِ۔ (

(مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۷۱۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خواتین کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے:

يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۷۱۶)

اس طرح کے بہت سے اقوال صحابہ اور محدثین سے منقول ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جہاں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں فتنے جنم لیتے ہیں؛ اسی لئے بعض حضرات نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی؛ لیکن بعض تحدیدات کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو صورتوں میں عورت کے مسجد جانے کو قابل قبول قرار دیا، ایک یہ کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ عمر دراز عورت ہو، اور وہ موزہ پہن کر نماز کے لئے جائے:

إِلَّا أَنْ تُصْلِّيَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِلَّا عَجُوزٌ فِي مِنْقَلَيْهَا

يَعْغِيْ خُفَّيْهَا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر: ۷۱۳)

اسی طرح بعض حضرات نے فجر اور عشاء کی نماز میں عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دی ہے (بخاری، حدیث نمبر: ۸۶۵) کیوں کہ یہ وقت تاریکی کا ہوتا ہے اور انسان پوری طرح نظر نہیں آتا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر شریعت کا رمز شناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس کون ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانہ میں فرمایا کہ عورتوں کی آج جو کیفیت ہو گئی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہوتا تو بنی اسرائیل کی خواتین کی طرح عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرمادیا ہوتا:

لَوْ أَذِرْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَدَ  
النِّسَاءُ لَمْ يَعْهُنَّ كَمَا مِنْعَثُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(بخاری، حدیث نمبر: ۸۶۹)

### حاصل کلام

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے آثار، دین کے مجموعی مزاج و مذاق اور فقهاء کی تصریحات کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے کے سلسلہ میں جو نکات سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہیں:

(۱) اسلام میں عورتوں کو پورا احترام دیا گیا ہے، اور اس احترام کا ایک پہلو یہ ہے کہ خواتین کے مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ برادران وطن کے یہاں بعض مندوں میں خواتین نہیں جا سکتیں، حریم شریفین کو مسجدوں میں بھی ایک خاص حیثیت اور تقدس حاصل ہے، اس کے باوجود مسلمان عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، اور ہمیشہ سے اس کا تعامل رہا ہے۔

(۲) اگر کوئی عورت مسجد میں انفرادی طور پر نماز ادا کر لے جیسے راستے سے گزرتے ہوئے مسجد می اور وہاں ایک کونہ میں نماز پڑھ لی، پردہ کا پورا خیال رکھا، تو اس میں کوئی حرث نہیں ہے۔

(۳) عورتوں کے لئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلہ گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح ہے؛ اس لئے یہ درست نہیں ہے کہ خواتین کو ترغیب دی جائے کہ وہ مسجد میں جا کر جمعہ و عیدین کی نماز ادا کیا کریں؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے ان کے لئے گھر کے ایک کونہ میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔

(۴) رہ گئی یہ بات کہ عورتوں کو مسجد میں جماعت کے وقت جماعت سے اور جب جماعت کا وقت نہ ہو تو انفرادی طور پر نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور مسجد میں خواتین کی نماز کے لئے انتظام رکھنا چاہئے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں ہمارے یہاں خاصی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ایک گروہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ عورتوں کو مردوں ہی کی طرح مسجد جانے کی ترغیب دینی چاہئے اور ہر مسجد میں ان کے لئے نماز کا انتظام ہونا چاہئے، یہ نشواد دین سے ناقصیت کا نتیجہ ہے، جب آپ ﷺ نے خود فرمادیا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے تو پھر اس پر اصرار کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس اندیشہ کا اظہار فرمایا ہے، وہ ان کے زمانہ کے مقابلہ اب بدر جہاڑھا ہوا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر آج کے دور میں خواتین، شاپنگ اور دوسرے کاموں کے لئے تو نکلا ہی کرتی ہیں، اگر نماز کے لئے نکلیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن ضروری ہے کہ ہم دونوں کے فرق کو سامنے رکھیں، اولاً تو ویسے بھی عورتوں کا شاپنگ کے لئے نکلنا کوئی بہتر بات نہیں ہے؛ لیکن غور کیجئے کہ اگر بازار میں کوئی ناخوشنگوار واقعہ پیش آجائے تو اس سے بازار بدنام ہو گا، اور اسی طرح کا واقعہ اگر مسجد میں پیش آئے تو اس سے مسجد کی حرمت پا مال ہو گی، اور مسجد کی طرف اس کی نسبت ہو گی، جیسا کہ آج کل برادران وطن کی عبادت گاہوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور وہ معاشرہ میں بدنام ہیں؛ اس لئے موجودہ زمانہ کے احوال اس کے لئے بالکل موزوں نہیں ہیں کہ خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کا نہ ادا کرنے کی دعوت دی جائے، اور شریعت میں جہاں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ان کا

ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دو مختلف حالات کے لحاظ سے دونوں پر عمل کیا جائے، قرون اولیٰ کے حالات اتنے برے نہیں تھے تو عورتیں مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور موجودہ دور میں اخلاقی مفاسد بہت بڑھ گئے ہیں؛ اس لئے ہمیں اُس طریقہ پر عمل کرنا چاہئے، جس کو آپ ﷺ نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔

### باجماعت سے روکنا عورتوں کے حق میں رحمت

بعض تجدید پسند مرد اور خواتین اس بات کو عورتوں کی تذلیل قرار دیتے ہیں کہ ان کو جماعت میں شریک ہونے سے روکا جائے، یہ حضن سمجھی اور کرم فہمی کی بات ہے، یہ تذلیل نہیں ہے، رعایت ہے، یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے؛ بلکہ ان کے لئے چھوٹ ہے، عورتوں کا سب سے اہم کردار ماں ہونے کا ہے، جب وہ ماں بنتی ہیں تو جنت ان کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے؛ کیوں کہ وہ بچوں کی پرورش کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کی منتظم بھی ہوتی ہیں اور تمام امور خانہ داری ان ہی سے متعلق ہوتے ہیں، جس ماں نے رات میں جاگ کر بچوں کو سکھ پہنچایا ہو، جو اپنے سینہ میں محفوظ پاک غذا کے سرچشمہ سے اپنے نوہنالوں کو سیراب کرنے کے لئے بار بار اٹھی ہو، اور فجر کے وقت نیند اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی ہو، اگر اسے اس وقت فجر کی نماز کے لئے مسجد جانا لازم ہوتا تو سوچئے کہ اسے کتنی دشواری ہوتی، جس عورت کو اللہ نے نازک اندام اور سبک خرام بنایا ہے، اگر دو پھر کی آگ اگلتی ہوئی دھوپ میں مسجد جانے پر مجبور کیا جاتا تو یہ بات اس کے لئے کس درجہ پر یہاں کا باعث ہوتی؟ اس لئے اسلام نے جیسے زندگی کے دوسرے مسائل میں خواتین کے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ کیا ہے، کہ حج میں کوئی حرم مددگار یا شوہر ساتھ نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں، اس پر جہاد فرض نہیں، اور کسب معاش کی ذمہ داری نہیں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اس کے ساتھ رعایت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے۔

### چند قابل غور پہلو

موجودہ دور میں بہت سی جگہ مسجدوں میں خواتین کے لئے نماز کا انتظام ضروری

محسوس ہوتا ہے، جیسے بازاروں کی مسجدیں کہ خواتین وہاں آنکھیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز سے محروم نہ رہ جائیں، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ائیر پورٹ، کورٹ، ہاسپیٹ کے قریب کی مسجدیں؛ کیوں کہ یہاں مقامات ہیں، جہاں ضرورتاً خواتین کو آنا پڑتا ہے، اگر ان کے لئے نماز کا انتظام ہو تو نماز قضاۓ نہیں ہوتی، اسی طرح ہائی وے پر جو مسجدیں ہوتیں ہیں، ان میں بھی اس انتظام کی ضرورت ہے، رمضان المبارک میں عورتوں کی بڑی تعداد نماز تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتی، حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سننے کا جذبہ لوگوں میں تراویح کے اہتمام کا محرك بتاتا ہے، عام طور پر محلہ میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، اگر ایک مسجد سے متصل خواتین کے لئے ہال بنادیا جائے؛ تاکہ اڑاؤں پڑاؤں کی خواتین یہاں نماز پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا، اسی طرح تعلیمی اداروں میں مسلمان لڑکیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، اگر ان اداروں کے قریب خواتین کے لئے نماز کا مصلیٰ بنادیا جائے؛ تاکہ وہ ظہر و عصر کی نمازیں یہاں ادا کر لیں، اس طرح وہ نمازیں پڑھیں گی اور ان کو اس کی عادت پڑے گی۔

پھر موجودہ دور میں عموماً مسجدوں کے ساتھ طبعی حاجات کے لئے بھی انتظام ہوتا ہے، یوں تو کسی کا بھی ادھر ادھر استجاء کے لئے بیٹھ جانا بہتر بات نہیں؛ لیکن خاص کر خواتین کے لئے یہ زیادہ دشواری کا باعث ہے؛ اس لئے اگر بازار اور ہائی وے وغیرہ کی مسجدوں میں خواتین کے حصہ میں باتحر و مامن کا نظام بھی رکھا جائے تو یہ ان کے لئے بے حد سہولت کا باعث ہو گا۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں دین کی جو کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، ان سے زیادہ تر مرد ہی استفادہ کرتے ہیں، جمعہ کے بیانات ہوں، دعویٰ اجتماعات ہوں، سیرت کے جلسوں، مدارس کے پروگرام ہوں، اصلاح معاشرہ کی کانفرنسیں ہوں، ان میں بے چاری خواتین کو شاذ و نادر ہی استفادہ کا موقع ملتا ہے؛ حالاں کہ عورت خاندان کی بنیاد ہوتی ہے اور اسی کی گود پچوں کی پہلی درس گاہ بنتی ہے؛ اس لئے ضرورت ہے کہ

شہر کی بعض مسجدوں سے قریب خواتین کے لئے اجتماع ہال تعمیر کیا جائے اور اس کو مسجد کے مانگ سے مر بوط کر دیا جائے؛ تاکہ جمود سے پہلے جو بیان ہو، اسے خواتین بھی سن سکیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ مسجد سے گھروں کو ایسا کیبل لٹکاشن دیا جائے کہ خواتین اپنے گھروں میں بیانات کو سن سکیں، اس وقت خواتین کی تربیت دونوں پہلووں سے ضروری ہے، اس پہلو سے کہ وہ معاشرہ کی اصلاح کریں اور ان کے ذریعہ ایک اچھے سماج کی تشکیل ہو، اور اس لئے بھی کہ عورتوں کو بنیاد بنا کر اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، خواتین اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور وہ دوسری بہنوں کو اسلام کے بارے میں مطمئن کر سکیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اصلاحی پروگراموں اور تذکیری خطابات میں خواتین کی شرکت کا نظم کیا جائے۔

حاصل یہ ہے کہ نہ یہ درست ہے کہ خواتین کو مسجد جانے کی ترغیب دی جائے اور ہر مسجد میں ان کے لئے نماز کا انتظام ہو اور نہ یہ درست ہے کہ جہاں مسجدوں میں خواتین کے لئے نماز کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا، وہاں بھی اس ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ (مساجد اور خواتین از فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم مع حذف)

## تمرینی سوالات

- سوال ۱: مرد و عورت کے درمیان شرعی احکام میں جو فروق ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیجیے۔
- سوال ۲: اُن فروق سے کیا بات واضح ہوتی ہے۔
- سوال ۳: عورت کے مستور رہنے سے متعلق کوئی ایک حدیث ذکر کیجیے۔
- سوال ۴: نماز میں مرد و عورت کے درمیان فرق کی بنیادی علت اور وجہ کیا ہے؟
- سوال ۵: قیام میں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟
- سوال ۶: تحریک میں کن چیزوں کی رعایت ہوئی چاہیے؟
- سوال ۷: رکوع میں کون سی باتیں ملحوظ رہیں؟
- سوال ۸: سجدے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟
- سوال ۹: سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کس طرح کھڑے ہو؟
- سوال ۱۰: تشهید میں انگلی سے اشارے کی مکمل کیفیت ذکر کیجیے۔
- سوال ۱۱: سلام کا سنت طریقہ بتلائیں۔
- سوال ۱۲: ہاتھ کہاں تک اٹھانا مسنون ہے؟ دلیل کے ساتھ لکھیں۔
- سوال ۱۳: ہاتھ کہاں باندھے؟ اس سلسلے میں کوئی آیت یا حدیث موجود ہے؟ اگر نہیں تو کس بنیاد پر اس کو مسنون کہا گیا؟
- سوال ۱۴: قیام کے سلسلے میں حضور ﷺ کا طریقہ بتلایا گیا: اعتدال قائمًا۔ اس کا مطلب بیان کریں۔
- سوال ۱۵: قیام میں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنے کے مسنون ہونے کی دلیل کیا ہے؟
- سوال ۱۶: قراءت سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟
- سوال ۱۷: جہری نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کرنا کیسا ہے؟

سوال ۱۸: قراءت کی مسنون مقدار کیا ہے؟

سوال ۱۹: رکوع اور سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھنی چاہیے؟

سوال ۲۰: سجدے میں انگوٹھے کہاں ہوں؟ اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا جدا؟ مع دلیل ذکر کریں۔

سوال ۲۱: سجدے کا طریقہ مع دلائل سمجھ کر لکھیں۔

سوال ۲۲: دوسری رکعت میں شناور تعوذ پڑھنے کا حکم دلیل کے ساتھ لکھیں۔

سوال ۲۳: نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے؟

سوال ۲۴: کیا مرد عورت کی نماز کا فرق صرف فتح خنی میں ہے؟

سوال ۲۵: صَلُوٰةٌ كَمَا رَأَيْتُمُونِی أَصَلِیٌ. حضور ﷺ کا حکم تو یہ ہے، پھر عورتیں حضور ﷺ کے عملی طریقہ ہے خلاف کیوں نماز ادا کرتی ہیں؟

سوال ۲۶: نماز میں سجدے کے اندر ہاتھ بچھانے کی ممانعت ہے، پھر عورت کیوں ہاتھ بچھاتی ہیں؟

سوال ۲۷: دور نبوت اور دور صاحبہ میں عورتیں مسجد کی باجماعت نماز میں شریک ہوتی تھیں یا نہیں؟

سوال ۲۸: دور نبوت کے بعد عورتوں کو مسجد آنے سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟

سوال ۲۹: کیا عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز میں شرکت سے روکنا ان کی توہین ہے؟

سوال ۳۰: مساجد میں خواتین کی آمد کے سلسلے میں موجودہ دور میں کیا بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں اور معتدل موقف کیا ہے؟

## فہرست مراجع و مأخذ

- ۱- بخاری، امام محمد بن سعید بن بخاری (م: ۲۵۶ھ) دار طوق النجاة
- ۲- مسلم، امام مسلم بن حجاج قشیری (م: ۲۶۱ھ) دار احیاء التراث العربي بیروت
- ۳- نسائی، امام احمد بن شعیب نسائی (م: ۳۰۳ھ) مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب
- ۴- ترمذی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی (م: ۲۷۹ھ) دار الغرب الاسلامی
- ۵- ابو داؤد، امام ابو داؤد سجستانی (م: ۲۵۷ھ) المکتبۃ العصریۃ بیروت
- ۶- ابن ماجہ، امام ابن ماجہ قزوینی (م: ۲۷۳ھ) دار احیاء الکتب بیروت
- ۷- مندرجی حنفی، امام ابو حنفیہ روایۃ الحکیمی (م: ۱۵۰ھ) الاداب، مصر
- ۸- مستدرک علی حیثین، امام حاکم نیشاپوری (م: ۳۰۵ھ) دار الکتب العلمیۃ بیروت
- ۹- صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نیشاپوری (م: ۱۱۳ھ) المکتب الاسلامی بیروت
- ۱۰- صحیح ابن حبان، امام محمد بن حبان دارمی (م: ۳۵۷ھ) مؤسسة الرسالة بیروت
- ۱۱- سنن کبریٰ، علامہ ابو بکر بن حنبل (م: ۳۵۸ھ) دار الکتب العلمیۃ بیروت
- ۱۲- مجمع کبیر طبرانی، امام ابو قاسم طبرانی (م: ۳۶۰ھ) مکتبۃ ابن تیمیۃ القاہرۃ
- ۱۳- مجمع اوسط طبرانی، امام ابو قاسم طبرانی (م: ۳۶۰ھ) مکتبۃ ابن تیمیۃ القاہرۃ
- ۱۴- مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر بن ابی شیبہ (م: ۲۳۵ھ) مکتبۃ الرشد ریاض
- ۱۵- مصنف عبد الرزاق، امام ابو بکر عبد الرزاق صنعاوی (م: ۲۱۱ھ) مجلس لعلی ہند
- ۱۶- مندرجی احمد بن حنبل (م: ۲۳۱ھ) مؤسسة الرسالة بیروت
- ۱۷- مرقاۃ المفاتیح، ملا علی قاری (م: ۱۰۱۳ھ) دار الفکر، بیروت
- ۱۸- کتاب الام، امام محمد بن ادریس شافعی (م: ۲۰۳ھ) دار المعرفۃ بیروت
- ۱۹- هدایہ، امام برهان الدین مرغینی (م: ۵۹۳ھ) دار احیاء التراث العربي بیروت
- ۲۰- بدائع الصنائع، علامہ علاء الدین کاسانی (م: ۷۵۸ھ) دار الکتب العلمیۃ بیروت

- الحجر الرائق، علامہ زین الدین ابن حمیم (م: ۷۹۰ھ) دارالکتب الاسلامی
- فتح باب العناية بشرح العقاۃ، ملاعی قاری (م: ۱۰۱۳ھ) شرکت دارالرقم بیروت
- مرافق الغلاح، علامہ حسن شربلائی (م: ۱۰۶۹ھ) المکتبۃ العصریۃ
- الدر المختار مع رد المحتار، علامہ علاء الدین حکیمی (م: ۱۰۸۸ھ) وعلامہ ابن عابدین شافعی (م: ۱۲۵۲ھ) داراللگر بیروت
- دررالحکام شرح مجلۃ الاحکام، علامہ علی حیدر آفندی (م: ۱۳۵۳ھ) داراللگل بیروت
- الشرح الکبیر و معه حاشیۃ الدسوی، علامہ احمد دردیر (م: ۱۲۰۱ھ) وعلامہ ابن عرفہ دسوی (م: ۱۲۳۰ھ) داراللگر
- الرسالۃ، علامہ عبد اللہ قیروانی (م: ۱۳۸۲ھ) داراللگر
- الجمیع شرح المہذب، امام بیکی بن شرف نووی (م: ۱۲۷۶ھ)
- البیان فی مذهب الامام الشافعی، علامہ ابو حسین عمر افی (م: ۱۵۵۸ھ) دارالمنهاج جدة
- تحفۃ المحتاج، علامہ ابن حجر یتمنی (م: ۹۷۲ھ) المکتبۃ التجاریۃ الکبری مصر
- المغنى، علامہ ابن قدامة مقدسی (م: ۲۰۰ھ) مکتبۃ القاہرۃ
- الاقناع مع کشاف القناع، علامہ موسی بن احمد حجاوی (م: ۹۶۸ھ) وعلامہ منصور بہوی (م: ۱۰۵۱ھ) دارالکتب العلمیۃ بیروت
- فقہ حنفی کے مسائل نماز احادیث و آثار، مفتی عبداللہ سعدی، مکتبہ احسان لکھنؤ
- عورت کی نماز، مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی، مکتبہ مسح الامت دیوبند
- مجموعہ رسائل و مقالات (تحفظ سنت کانفرنس جمعیۃ علماء ہند) دارالعلوم رحمانیہ حیدر آباد
- نبی اکرم ﷺ کی نماز، مفتی مکرم مجی الدین قاسمی، مغل پورہ حیدر آباد
- مسنون نماز، مفتیان ابو بکر جابر و فیض الدین حنفی قاسمیان، خیرالمدارس حیدر آباد
- تحفۃ النساء، مفتی شفیق احمد قاسمی، مدرسہ اصلاح البنات ببغور
- مردو عورت کی نماز کا فرق احادیث و فقہ کی روشنی میں، مفتی محمد سلمان مدظلہ
- مساجدا و رخواتین، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، بصیرت آن لائن